

## 20020- انجیل اور تورات کو اپنے پاس رکھنا

### سوال

کیا میرے لئے یہ صحیح ہے کہ میں انجیل کا ایک نسخہ رکھ لوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کلام جو کہ اپنے بندے اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی اس کا پتہ چل سکے؟

### پسندیدہ جواب

قرآن کی موجودگی میں گذشتہ کتابوں انجیل تورات وغیرہ میں سے کچھ بھی رکھنا دو سبب سے جائز نہیں۔

### پہلا سبب :

اس میں جو کچھ بھی نفع والی اشیاء تھیں اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمادیا ہے۔

### دوسرا سبب :

قرآن میں وہ کچھ ہے جو کہ ہمیں ان کتابوں سے کفایت کرتا ہے۔

### فرمان باری تعالیٰ ہے :

(اس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے)

تو جو بھی پہلی کتابوں میں کوئی خیر تھی وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔

اور مسائل کا یہ قول کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے اور رسول علیہ السلام کے ساتھ کلام کی جان لے تو اس سے جو نفع مند تھا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں کہ اس کے علاوہ کہیں اور تلاش کیا جائے۔

اور پھر اس وقت موجودہ انجیل محرف شدہ ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ انجیل ایک نہیں چار ہیں جو کہ ایک دوسری کی مخالفت کرتی ہیں تو پھر اس پر اعتماد کیسے کیا جاسکتا۔

لیکن وہ طالب علم جو علم میں متمکن ہے اور یہ چاہتا ہے کہ حق اور باطل کو پہچانے تو اس کے لئے کوئی مانع نہیں تاکہ اس میں جو کچھ باطل ہے اس کا رد کر سکے اور اس پر عمل کرنے والوں پر حجت قائم کرے۔